



## سوال

(410) بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

## جواب

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

روزہ دار اگر بھول کر کھالے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو اسے دیکھ رہا ہو، اس کے لیے کیا واجب ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے تو اس کا روزہ صحیح ہے لیکن جب اسے یاد آجائے، تو اس کے لیے رک جانا واجب ہے حتیٰ کہ اگر لقمہ یا پانی کا گھونٹ اس کے منہ میں ہو تو اسے تھوک دینا واجب ہے۔ اس کے روزے کے صحیح ہونے کی دلیل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے:

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (صحیح البخاری، الصوم، باب اذا اكل او شرب ناسيا، ج: ۱۹۳۳ و صحیح مسلم، الصيام، باب اكل الناسي وشربه وجماعة لا يلفظ، ج: ۱۵۵ او اللفظ له)

”جو روزہ دار بھول کر کھاپی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا یا پلایا ہے۔“

کیونکہ بھول کر ممنوع فعل کے ارتکاب پر انسان سے مواخذہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا ۚ ۲۸۱ ... سورة البقرة

”اے ہمارے پروردگار! اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجئے۔“

اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جو شخص اسے دیکھے، اس کے لیے واجب ہے کہ اسے یاد دلا دے کیونکہ یہ برائی سے روکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُخْبِرْهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» (صحیح مسلم، الايمان، باب كون النبي عن المنكر من الايمان، ج: ۳۹)

”تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹادے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے سبھا دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔“

لا ریب! روزہ دار کا حالت روزہ میں کھانا پینا برائی ہے اور حالت نسیان میں مواخذہ نہ ہونے کی وجہ سے قابل معافی ہے لیکن دیکھنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، لہذا وہ اسے یاد دلائے اور اس سے منع کرے۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

## فتاویٰ ارکان اسلام

عقائد کے مسائل: صفحہ 381

محدث فتویٰ